

Tarjuma Tul Quran Majeed - FA Part 2 Tarjimatul Quran Chapter 13 Short Questions Test

Q1. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے سورۃ البقرہ کو قرآن مجید کو کیا کہا ہے۔

Ans 1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا: ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔

Q2. سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے۔

Ans 1: سورۃ البقرہ کی آیات سرسٹھ تا تہتر میں اس گانے کا واقعہ منکور ہے جسے زبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے۔ کیوں کہ بقرہ عربی زبان میں گانے کو کہتے ہیں۔ اس واقعہ میں بہت سی حکمتیں ہیں جن میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مرجانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔

Q3. سورۃ التوبہ کو سورۃ البراءۃ کیوں کہا جاتا ہے۔

Ans 1: سورۃ البراءۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ براعت کے معنی کسی سے بری، بے زار، قطع تعلق اور دست بردار ہونا ہے۔ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الزمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہیں۔

Q4. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں کیا فرمایا۔

Ans 1: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس کے پڑھنے میں برکت، چھوڑنے میں حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل (جادوگر، کابن، اور مکار) لوگوں کا اس پر بس نہیں چلتا (یعنی ان کا فریب اثر نہیں کرتا)۔

Q5. آل عمران کا مطلب کیا ہے۔

Ans 1: عمران کے مطلب خاندان ہے۔

Q6. سورۃ ال عمران کی کون سی آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔

Ans 1: سورۃ ال عمران کی آیت اکسٹھ ایت مباہلہ کہلاتی ہے۔

Q7. سورۃ الانفال کو سورۃ الانفال کیوں کہا گیا ہے۔

Ans 1: اس سورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانفال ہے۔

Q8. حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا۔

Ans 1: حضرت عمران، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔

Q9. غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا؟

Ans 1: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافق ساتھیوں سمیت لشکر سے نکال باہر کیا۔ اہل ایمان نے اپنی طاقت سے بڑھ کر ایثار کا مظاہرہ کیا اور پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔

Q10. اللہ تعالیٰ نے مہابله کرنے کا حکم کس قوم کو دیا.

Ans 1: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو غیر مسلموں کے ساتھ مہابله کرنے کا حکم دیا ہے۔
